








(utan bilder)

Ingrid Schechter 
Ingrid Schechter 
Agri Afshin 
kurdiska (sorani) / svenska  || nivå 2



Tingi och korna

تینگ و کورنا



Sagor för barn på svenska

berattelser.se

تینگ و کورنا / Tingi och korna

Skriven av: Ingrid Schechter

Illustrerad av: Ingrid Schechter


Översatt av: Agri Afshin (ckb), Emma Zarrat (sv)

Denna saga kommer från African Storybook (africanstorybook.org) och vidarebefordras av Sagor för barn på svenska (<http://berattelser.se/>), som erbjuder sagor på många språk som talas i Sverige.

Detta verk är licensierat under en Creative Commons

[Erkännande 3.0 Internasjonal Lisens.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv)

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv>



تینگى له گه‌ل نه‌نكى ده‌ژيا.


...


Tingi bodde hos sin farmor.

Han brukade passa korna med henne.

...

و لکھتا ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔





رۆژيكيان سەربازەكان هاتن.


...

En dag kom soldaterna.

De smög hem mycket tyst.

...


تەواپى بە تەسلىشى چو تەو تەو مالى




De tog korna.

...

تەواپى مالى تەسلىشى چو تەو تەو مالى






تینگى و نەنكى ھەلاتىن و خۇيان شارىدەوہ.

...

Tingi och hans farmor sprang och gömde sig.



كاتىك بارودۇخەكە ئاساى بۆوہ، تىنگى و نەنكى ھاتنە دەرەوہ.

...


När det kändes tryggt kom Tingi och hans farmor fram igen.

En av soldaterna ställde sin fot rakt på honom,
men han höll tyst.

...

دهنگي نه كړه.


په كړاك له سهرباړه كارې رااست پټې له سهر تينكي دانا، په لاسم نه و




De gömde sig i skogen tills det blev natt.

...

ته اوان له دارستانه كره جوړتاې حه شادرا تا شه و داهات.






كاتيڭ سەربازەكان ديسان گەرانەوہ.

...

Då kom soldaterna tillbaka.



نەنكى، تينگى لەژير گەلاكاندا شاردەوہ.

...

Farmor gömde Tingi under löven.